



سوال

(772) نماز کی قضاء کا طریقہ، نماز پڑھنے سے پہلے یا بعد میں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز کی قضاء کس طرح دی جاسکتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے یا بعد میں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سوال غیر واضح ہے۔ غالباً سائل کا مقصود یہ ہے، کہ فوت شدہ نماز کی قضاء حاضر نماز کی ادائیگی سے پہلے دی جائے یا بعد میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کہ فوت شدہ نماز کی قضاء پہلے دی جائے، بعد میں موجود نماز کو ادا کیا جائے۔ مسئلہ ہذا پر ”صحیح بخاری میں باب الفاظ تہویب قائم کی ہے:

بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَالْأُولَى

یعنی ”فوت شدہ نمازوں کی قضاء بالترتیب ہے۔“

پھر مصنف رحمہ اللہ نے قصہ خندق سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضاء ہو گئی تھی۔ غروب شمس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر پڑھی۔ پھر نماز مغرب کو ادا کیا۔ (صحیح البخاری، باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَبَابِ الْوَقْتِ، رقم: ۵۹۶، مع فتح الباری: ۲/۴۲)

یاد رہے کسی معقول عارضہ کی بناء پر تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے مثلاً: حاضر نماز کا وقت تنگ ہے یا جماعت کھڑی ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورتوں میں حاضر نماز پہلے پڑھی جائے اور قضاء شدہ نماز کی قضاء بعد میں دی جائے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی



كتاب الصلوة: صفحہ: 653

محدث فتویٰ